

(بقیہ اشارات) کم تکلیف دہ نہیں ہوتی۔

خالق کائنات کے نوع بشری پر لاتعداد احسانات میں یہ بھی ایک بڑا احسان ہے کہ اس نے انسانوں کے جسمانی تحفظ کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاقی تحفظ کا بھی خاطر خواہ انتظام کیا ہے اور اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ جسمانی بیماری کے احساس کی طرح اخلاقی عوارض کا احساس بھی انسانوں میں کسی نہ کسی شکل میں ہمیشہ موجود رہتا ہے خواہ اسے مٹانے کے لیے کتنی ہی تدبیریں کی جائیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ آزاد شہوت رانی کے حق میں بعض لوگوں نے کس قدر زوردار پراپیگنڈہ کیا ہے اور کن کن دلائل کے ساتھ اسے انسان کی ایک فطری ضرورت قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ پھر عملی میدان میں اس گھناؤنے جرم کی پوری طرح حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور ایسے حالات پیدا کیے گئے ہیں جن میں اسے قانونی تحفظ حاصل ہو گیا ہے لیکن ان ساری کاوشوں اور جیلہ سازیوں کے باوجود اسے ہر انسان گناہ ہی سمجھتا ہے خواہ اس کا مرتکب اسے ایک ناگزیر برائی یا ناگزیر ضرورت کا نام دے کر اپنے دل کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے جس طرح کسی بسنی کے سارے افراد اگر وبا کی مرض کی لپیٹ میں آجائیں تو ان کے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ تندرست ہیں بالکل اسی طرح اگر پورا معاشرہ اخلاقی انحطاط کا شکار ہو جائے تو اس کے افراد اس ابلہ فریبی میں مبتلا نہیں ہو سکتے کہ وہ اخلاقی اعتبار سے ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ ان کے اندر اپنی اخلاقی گراؤٹ کا چھبٹنا ہوا احساس ہمیشہ موجود رہتا ہے جو انہیں کسی کل چسپ نہیں لینے دیتا۔

پھر اسی احساس زیاں کو زندہ رکھنے کے لیے قدرت نے دوسرا انتظام یہ کیا ہے کہ کوئی قوم جب بُرائی کے راستے پر چند قدم آگے بڑھتی ہے تو اس کے بھیاٹک نتائج کھل کر اس کے سامنے آنے لگتے ہیں جو اس بات کی دہائی دیتے ہیں کہ جس راستے پر وہ گامزن ہے وہ فوز و فلاح کا راستہ نہیں بلکہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے اور یہ اس کی علامتیں اور نشانات ہیں جنہیں دیکھ کر اسے عبرت پکڑنی چاہیے ورنہ وہ ایسے خوفناک انجام سے دوچار ہوگی کہ دوسری قوموں کے لیے باعث عبرت بنے گی۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب بھی کائنات کے کسی حصے میں توازن بگڑنے لگتا ہے تو وہ خود ہی اس کی درستگی کا انتظام فرما دیتا ہے۔ حیانتِ انسانی میں بھی اس کا یہی اصول کار فرما ہے لیکن یہاں وہ اس بگاڑ کے خوفناک نتائج کو سامنے لا کر